

# شراب کیڑوں پر لگ جائے تو اس میں نماز پڑھنے کے متعلق تفصیل

مجیب: مولانا محمد انس رضا عطاری مدنی

فتویٰ نمبر: WAT-3284

تاریخ اجراء: 17 جمادی الاولیٰ 1446ھ / 20 نومبر 2024ء

## دارالافتاء اہلسنت

(دعوت اسلامی)

### سوال

میرا دارالافتاء کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ اگر شراب کیڑے کے اوپر لگ جائے تو کیا اس کیڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور کیا کیڑے پر شراب لگنے سے کیڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟ پلیز رہنمائی فرمادیجئے جزاک اللہ خیراً۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

شراب نجاست غلیظہ ہے، اور اگر کیڑوں پر نجاست غلیظہ لگ جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کیڑے یا بدن میں ایک درہم سے زیادہ لگ جائے، تو اس کا پاک کرنا فرض ہے، بے پاک کیے نماز پڑھ لی تو ہوگی ہی نہیں اور قصد اُپڑھی تو گناہ بھی ہو اور اگر معاذ اللہ عزوجل استخفاف و تحقیر کی نیت ہو تو کفر ہو۔

اور اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے کہ بغیر پاک کیے نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی ہوئی یعنی ایسی نماز کا اعادہ واجب ہے اور قصد اُپڑھی تو گناہ بھی ہو۔

اور اگر درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے، کہ بغیر پاک کیے نماز ہوگئی مگر خلاف سنت ہوئی اور اس کا اعادہ بہتر ہے۔

بہار شریعت میں ہے: "ہر قسم کی شراب اور نشہ لانے والی تازی اور سیندھی۔۔۔ یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔" (بہار شریعت، حصہ 2، صفحہ 391، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

نجاست غلیظہ کے حکم کے متعلق ہے: "نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کیڑے یا بدن میں ایک درہم سے زیادہ لگ جائے، تو اس کا پاک کرنا فرض ہے، بے پاک کیے نماز پڑھ لی تو ہوگی ہی نہیں اور قصد اُپڑھی تو گناہ بھی ہو اور اگر بے نیت استخفاف ہے تو کفر ہو اور اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے کہ بے پاک کیے نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی

ہوئی یعنی ایسی نماز کا اعادہ واجب ہے اور قصد اُپڑھی تو گنہگار بھی ہو اور اگر درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے، کہ بے پاک کیے نماز ہوگئی مگر خلاف سنت ہوئی اور اس کا اعادہ بہتر ہے۔" (بہار شریعت، حصہ 2، صفحہ 389، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ



**Darul-Ifta Ahlesunnat (Dawat-e-Islami)**



[www.fatwaqa.com](http://www.fatwaqa.com)



[daruliftaahlesunnat](https://www.facebook.com/daruliftaahlesunnat)



[DaruliftaAhlesunnat](https://www.youtube.com/DaruliftaAhlesunnat)



[Dar-ul-ifta AhleSunnat](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daruliftaahlesunnat)



[feedback@daruliftaahlesunnat.net](mailto:feedback@daruliftaahlesunnat.net)